

ROOTWORDS OF SURAH AN NISA 83-86

أَذَاعُوا	رَدُّوْهُ	يَسْتَنْبِطُونَ+هُو	لَ+أَتَّبَعُ+تُمْ	تُكَلِّفُ
ذ ی ع	ر د و + ضمیر	ن ب ط + ضمیر	لام التوكید + ت ب ع + ضمیر	ک ل ف مجہول
مشہور کر دیتے ہیں	لوٹاتے + اس کو	جو استنباط کر سکتے ہیں + اس کا	البتہ + پیروی کرتے + تم	تم مکلف بنائے گئے
they spread [with] it	they (had) referred it	draw correct conclusion (from) it	surely you (would have) followed	are you responsible

حَرِّضَ	يَكُفُّ	بَأْسًا	أَشَدُّ	تَنْكِيلًا
ح ر ض	ک ف ف	ب ا س	ش د	ن ک ل
ابھاریے	کہ روک دے	طاقت میں	زیادہ سخت ہے	عبرت ناک سزائیں
encourage	restrain	(in) Might	Stronger	(in) punishment

يَشْفَعُ	شَفَلَعَةً	نَصِيبٌ	كِفْلٌ	مُقِيَّتًا
ش ف ع فعل مضارع	ش ف ع اسم	ن ص ب	ک ف ل	ق و ت
سفارش کرے گا	سفارش	ایک حصہ	ایک حصہ	حاضر۔ نگران
intercedes	an intercession	a share	a portion	a Keeper

حَسِيبًا	رُدُّو+هَآ	ف+حَيُّوَا	بِتَحِيَّةٍ	حِيَّي+تُمْ
ح س ب	ر د د + ضمير	ح ر ف + ح ي ي	ح ي ي	ح ي ي + ضمير
حساب لینے والا	لوٹا دو + اس کو	تو + تم بھی دعا دو	زندگی کی دعا	دعا دیے جاؤ + تم
an Accountant	return it	then greet	with a greeting	you are greeted

www.azharulUloom.com